

تازہترین (بائیونٹ) کووڈ-19 ویکسین کی حقیقت شیٹ

آپ کیا جاننا چاہتے ہیں

"بائیونٹ" کا کیا مطلب ہے؟

بائیونٹ سے مراد کووڈ-19 ویکسین ہے جس میں با دو اجزاء ہیں: کیا حصہ لکھوڈ-19 وائرس کا اور ایک حصہ اومیکرون ویرینٹ (مختلف) کا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کووڈ-19 ویکسین وائرس کی دو اقسام کے خلاف وسیع تر تحفظ فراہم کرتا ہے۔

مجھے اپ ڈیٹ شدہ کووڈ-19 ویکسین کے کتنے ٹیکے پینے ہونگے؟

ابھی بس ایک ٹیکہ لینا ہے۔ تاہم، متعدد ٹیکے لینے کے لیے آپ کی اپیل آپ کے عمر اور صحت کی حالت پر منحصر ہے۔ اپیل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے لٹھ کینٹر فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

ویکسینیشن سے متعلق اپ ڈیٹ شدہ رہنمائی

وہ لوگ جن کی عمر 65 سال اور اس سے زیادہ ہے یا جو لوگ مدافعتی کمزوری کا سامنا کر رہے ہیں

اگر آپ کی عمر 65 سال یا اس سے زیادہ ہے، تو آپ اپ ڈیٹ شدہ کووڈ-19 ویکسین کی ایک خوراکی کو اپ ڈیٹ شدہ ویکسین کی دوسری خوراکی 4 کی اپچار سے زیادہ مہینے بعد لے سکتے ہیں۔ اگر آپ مدافعتی کمزوری کا سامنا کر رہے ہیں، تو آپ اپ ڈیٹ شدہ کووڈ-19 ویکسین کی ایک خوراک ابھی اور اپ ڈیٹ شدہ ویکسین کی دوسری خوراکی 2 کی یا دو سے زیادہ مہینے بعد لے سکتے ہیں۔

6 ماہ سے 5 سال کی عمر تک کے بچے

تازہ تر رہنے کے لیے کووڈ-19 ویکسین کی متعدد خوراکی لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ سب بچے کے عمر اور گزشتہ لی گئی خوراکیوں کی تعداد پر منحصر ہے۔ مخصوص رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کے ہیلتھ کینٹر فراہم کنندہ سے تباد کریں۔

6 سے 64 سال کے عمر کے افراد

اپ ڈیٹ شدہ کووڈ-19 ویکسین کی کم از کم ایک خوراک ضرور لینی چاہیے۔

قریبی کووڈ-19 ویکسین کے مقامات تلاش کرنے کے لیے:

[vaccines.gov](https://www.vaccines.gov) تلاش کریں، اپنا زپ کوڈ 438829 پر مسیج کریں یا 1-800-232-0233 پر کال کریں۔



زکارمے کے ورورک تھام لروٹکر پی یارمیہ: بناندر